



Nasirat Ijtima Syllabus Year: 2024-2025

For Ages 10-12

Nasirah **MUST** participate in Tilawat & Salat competition, in order to participate in any other competition.

COMPETITION	SYLLABUS	NOTES
Tilawat-e-Quran MANDATORY	Chapter 2: Surah Al-Baqarah (Verses 201-203) with English, Urdu OR French Translation	<ul style="list-style-type: none"> • Melodic recitation with correct pronunciation • Memorization is NOT required
Hifz-e-Quran	Chapter 93 Surah Ad-Duha with English, Urdu OR French Translation	<ul style="list-style-type: none"> • Memorization with correct pronunciation • Melody NOT required
Salat/Namaz MANDATORY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complete Nazira Namaz (including Dua-Qunoot) 2. Word-to-word translation from Sajdah to Salam 	<ul style="list-style-type: none"> • Memorization is MANDATORY • Local Level ONLY
English Speech	<ol style="list-style-type: none"> 1. "Whoso imitates another people will be considered one of them" (Sunan Abu Dawud) 2. Khilafat, My Guiding Light 3. Seeking Allah's Pleasure through Financial Sacrifices 	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 Minutes • Time starts after Attashahud • There will be a leeway of 15 seconds, no marks will be deducted if they are 15 seconds over or under the limit • Memorization is required at Regional and National level NOT Local

COMPETITION	SYLLABUS	NOTES
Urdu Speech	<p>1. اَلْحَمْدُ - خوبوں والا</p> <p>2. میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔</p> <p>3. حضرت انا جان</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 Minutes • Time starts after Attashahud • There will be a leeway of 15 seconds, no marks will be deducted if they are 15 seconds over or under the limit • Memorization is required at Regional and National level NOT Local
French Speech	<p>1. How to attain nearness to God</p> <p>2. Hadith: "Modesty is a Part of Faith"</p> <p>3. Importance of watching Friday Sermons</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2-3 minutes • time starts after Attashahud • There will be a leeway of 15 seconds, no marks will be deducted if they are 15 seconds over or under the time limit • Memorization is required at Regional and National level NOT Local
Nazm	<p>1. Do Ghari Sbar Say Kaam Lo Sathiyo! (Kalam-e-Tahir)</p> <p>2. Dosto Hargiz Naheen Yeh Nach Aur Ganai Kay Din (Kalam-e-Mahmood)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Choose one nazm out of the 2 nazms, do NOT repeat verses • Memorization is required at Regional and National level
Bait Ba'azi	<p>Memorization & Delivery of couplets from any of the following books:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dur-e-Samin, Kalam-e-Mahmood, Kalam-e-Tahir, Dur-e-Adan, Bukhar-e-Dil 	<ul style="list-style-type: none"> • Local Level ONLY

Tilawat-e-Quran (10-12)

Surah Al-Baqarah (201-203)

فَإِذَا قُضِيَتْمْ مَّنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿٢٠١﴾
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠٢﴾
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٣﴾

English Translation:

201. And when you have performed the acts of worship prescribed for you, celebrate the praises of Allah as you celebrated the praises of your fathers, or even more than that. And of men there are some who say, 'Our Lord, grant us good things in this world;' and such a one shall have no share in the Hereafter.

202. And of them there are some who say: 'Our Lord, grant us good in this world as well as good in the world to come, and protect us from the torment of the Fire.'

203. For these there shall be a goodly share because of what they have earned. And Allah is swift at reckoning.

Tilawat-e-Quran (10-12)

Surah Al-Baqarah (201-203)

French Translation:

201. Et quand vous aurez fait les dévotions prescrites pour vous, souvenez-vous d'Allāh, comme vous vous souvenez de vos pères ou même avec plus de dévotion. Et parmi les hommes, certains disent : « Notre Seigneur, ce que Tu as à nous donner, accorde-nous le dans ce monde » ; pour ceux-là il n'y a aucune part dans l'au-delà.

202. Et il y en a d'autres qui disent : « Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu'une belle part dans l'au-delà, et protège-nous contre le châtement du Feu. »

203. Ceux-là recevront une belle part de ce qu'ils ont acquis. Et Allāh est prompt à faire les comptes.

Urdu Translation:

201. پس جب تم اپنے (حج کے) ارکان ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ذکر۔ پس لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب! ہمیں (جو دینا ہے) دنیا ہی میں دے دے۔ اور اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

202. اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی حصہ عطا کر اور آخرت میں بھی حصہ عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

203. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ایک بڑا اجر ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اور اللہ حساب (لینے) میں بہت تیز ہے۔

Hifz-e-Quran (10-12)

Surah Ad-Duha (1-12)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿١﴾ وَالضُّحٰی ﴿٢﴾ وَاللَّیْلِ اِذَا سَجٰی ﴿٣﴾
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی ﴿٤﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰی ﴿٥﴾
وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی ﴿٦﴾ اَلَمْ یَجِدْكَ یَتِیْمًا فَاوٰی ﴿٧﴾
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰی ﴿٨﴾ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰی ﴿٩﴾
فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تُقَهِّرْهُ ﴿١٠﴾ وَاَمَّا السَّاعِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ ﴿١١﴾
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١٢﴾

1. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
2. By the growing brightness of the forenoon,
3. And by the night when it becomes still,
4. Thy Lord has not forsaken thee, nor is He displeased with thee.
5. Surely every hour that follows is better for thee than the one that precedes.
6. And thy Lord will soon give thee and thou wilt be well pleased.
7. Did He not find thee an orphan and give thee shelter?
8. And He found thee wandering in search for Him and guided thee unto Himself.
9. And He found thee in want and enriched thee.
10. So the orphan, oppress not,
11. And him who seeks thy help, chide not,
12. And the bounty of thy Lord, proclaim.

Hifz-e-Quran (10-12)

Surah Ad-Duha (1-12)

1. Au nom d'Allāh, le Gracieux, le Miséricordieux.
2. Par la lumière grandissante de la matinée,
3. Et par la nuit lorsque son obscurité se répand,
4. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et Il n'est pas non plus mécontent de toi.
5. Assurément, chaque instant qui suit est meilleur pour toi que le précédent.
6. Et ton Seigneur t'accordera bientôt et tu seras très satisfait.
7. Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin et Il t'a donné refuge?
8. Et Il t'a trouvé errant à Sa recherche et Il t'a guidé vers Lui-Même.
9. Et Il t'a trouvé dans le besoin et Il t'a enrichi.
10. Donc, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas,
11. Et quant au mendiant, ne le réprimande pas,
12. Et quant à la munificence de ton Seigneur, proclame -la aux autres.

1. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔
2. قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو چکا ہو۔
3. اور رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے۔
4. تجھے تیرے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ نفرت کی ہے۔
5. اور یقیناً آخرت تیرے لئے (ہر) پہلی (حالت) سے بہتر ہے۔
6. اور تیرا رب ضرور تجھے عطا کرے گا۔ پس تو راضی ہو جائے گا۔
7. کیا اُس نے تجھے یتیم نہیں پایا تھا؟ پس پناہ دی۔
8. اور تجھے تلاش میں سرگرداں (نہیں) پایا، پس ہدایت دی۔
9. اور تجھے ایک بڑے کنبہ والا (نہیں) پایا، پس غنی کر دیا۔
10. پس جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اُس پر سختی نہ کر۔
11. اور جہاں تک سواالی کا تعلق ہے تو اُسے مت جھڑک۔
12. اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو (اسے) بکثرت بیان کیا کر۔

Nazm (10-12)

Do ghari sabr se kaam lo saathi'o! (Kalam-e-Tahir)

دو گھڑی صبر سے کام لو سا تھیو! آفتِ ظلمت و جور ٹل جائے گی
آہِ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا، رُخ پلٹ جائے گا، رُت بدل جائے گی
تم دُعائیں کرو یہ دُعا ہی تو تھی، جس نے توڑا تھا سِر کبرِ نمروود کا
ہے ازل سے یہ تقدیرِ نمروودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی

Do ghaRi sabr se kaam lo saathi'o!, Aafat-e-zulmato jor Tal jaa'ei gi
Aah-e-momin se Takraa ke toofaan kaa, Rukh palaT Jaa'ei ga rut badal jaa'ei gi
Tum du'aa'eiN karo ye du'aa hi to thi, Jis ne ToRa tha sar kibr-e-namrood ka
Hai a'zal se ye taqdeer-e-namroodiyat, Aap hi aag meiN apni jal jaa'ei gi

Dosto Hargiz Nahi Ye Naach Aur Gaanay kay Din (Kalam-e-Mahmood)

دوستو ہرگز نہیں یہ ناچ اور گانے کے دن
مشرق و مغرب میں ہیں یہ دیں کے پھیلانے کے دن
اس چمن پر جب کہ تھا دُورِ خزاں وہ دن گئے
اب تو ہیں اسلام پر یارو بہار آنے کے دن
سے بہت افسوس اب بھی گردِ ایماں لائیں لوگ
جب کہ ہر ملک و دُن پر ہیں عذاب آنے کے دن
پیش گوئی ہو گئی پوری مسیحِ وقت کی
”پھر بہار آئی تو آئے شلج کے آنے کے دن“

Dosto Hargiz Nahi Ye Naach Aur Gaanay kay Din, Mashriq-o-Maghrrib Main Hain Ye Deen
Kay Phailanay kay Din
Iss Chaman Par Jab Kay Tha Daur-e-Khizaan, Who Din Gaye, Ab to Hain Islam Par Yaro,
Bahaar Aanay kay Din
Hay Buhat Afsos Ab Bhi Gar Na Ema'n Layein Log, Jab Kay Har Mulk-o-Watan Par Hain
Azaab Aanay kay Din
Paish goi Ho Gayee Puri Maseeh-e- Wagt Ki, "Phir Bahaar Aayee To Aye Salj Kay Aanay kay
Din"